



## میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما سے زمین کو سونے اور چاندی کے عوض کرایہ پر دینے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے

حنظلاً بن قیس انصاری سے روایت ہے کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما سے زمین کو سونے اور چاندی کے عوض کرایہ پر دینے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں نہر کے کناروں اور نالیوں کے سروں پر زمین کرایہ پر دیتے تھے تو بعض اوقات اس زمین کی تباہی ہوتی اور دوسری سلامت رہتی اور بعض دفعہ یہ سلامت رہتی اور وہ برباد ہوجاتی اور لوگوں میں سے بعض کو بچنے والے کے علاوہ کچھ کرایہ وصول نہ ہوتا اسی وجہ سے آپ نے اس سے منع فرمایا، ہاں! اگر کرایہ کے بدلے کوئی معین اور ضمانت شدہ چیز ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ ان کے خاندان والے مدینہ والوں میں سب سے زیادہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے یہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق زمین کو اجارے پر دیتے تھے، زمین کھیتی باڑی کرنے کے لیے اس شرط پر دیتے تھے کہ ایک طرف کی پیداوار ان کی ہوتی تھی اور دوسری طرف کی کسان کی ہوتی، کبھی ایک کے حصے میں پیداوار ہوتی اور دوسرے کا حصہ ضائع ہو جاتا تھا کبھی زمین کے مالک کو اچھی پیداوار مل جاتی جیسے نہروں اور نالوں والی جگہوں کی زمینوں کی پیداوار، تو کبھی یہ پیداوار خراب ہوجاتی اور دوسری محفوظ رہتی اور کبھی اس کے برعکس ہوتا تھا چنانچہ نبی کریم نے اس میں غرر، جہالت اور ظلم کی وجہ سے ایسی بٹائی سے منع فرما دیا اس لیے کہ عوض کا معلوم ہونا ضروری ہے بعینہ نفع اور نقصان میں بھی برابری ضروری ہے اگر اس کے ایک حصے کو اجرت پر دیا جا رہا ہے تو یہ شراکت داری ہوتی جس کی بنیاد نفع اور نقصان میں انصاف اور برابری کا تقاضا کرتی ہے یا یہ کہ متعین تناسب کا معاملہ طے پائے جیسے چوتھائی یا آدھے حصے پر نفع تقسیم ہو اور اگر زمین عوض کے بدلے ہو تو یہ اجارے ہے اس میں عوض کا معلوم ہونا ضروری ہے یا جائز ہو خواہ سونے کے بدلے ہو یا چاندی کے یا زمین سے ہونے والی پیداوار میں سے کھانے کے بدلے ہو خواہ کھانا اسی فصل کی جنس سے ہو یا دوسری جنس سے اس لیے کہ یہ زمین کو اجارے پر دینا ہے یا یہ درختوں میں مساقا ہے یا پیداوار کے بدلے زمین دے کر مزارعت ہے اور (اس کے جائز ہونے کی ایک وجہ) یہ ہے کہ اس حدیث میں عموم ہے جس میں مذکور ہے کہ متعین اور قابل ضمانت چیز کے بدلے زمین دینے میں کوئی حرج نہیں ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6039>